



سوال

(694) خواجہ صاحب حسن نظامی اور دہلی کے وہابی

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خواجہ صاحب حسن نظامی اور دہلی کے وہابی

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

خواجہ صاحب حسن نظامی اور دہلی کے وہابی

خواجہ حسن نظامی صاحب یوں تو وحدت الہی جو دی ہیں اور ان کے کلمہ طیبہ کا مضمون ہے مگر وہ کسی خاص وجہ سے وہابیوں پر خاص نظر رکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے اخبار میں وہابیوں کا ایک شکایتی واقعہ یوں لکھا ہے۔

وہابیوں کی دلچسپ حرکت

آج صبح نماز کے بعد درگاہ میں آئے اور روزہ شریف کے دروازے کے سامنے مزار کی پشت کر کے بیٹھ گئے اور درگاہ والوں سے کہا تم نے یہ بت خانہ بنا رکھا ہے ہم یہاں قبر پرستی روکنے آئے ہیں امن پسند لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور ان لوگوں کو سمجھا کر وہاں سے ہٹا دیا میں نے یہ خبر سنی تو ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے رفع شرک کیا تھا، ہم میرا فرض ہے کہ میں اس قسم کی بے نتیجہ باتوں کا سدباب کروں۔

منادی دہلی یکم جولائی 1946 صفحہ 14

الجمہت

چونکہ خواجہ صاحب نے اس قسم کی حرکتوں کا سدباب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس لئے ہم ان کو دوستانہ مشورہ دیتے ہیں امید ہے وہ اس کو قبول فرمائیں گے بقول مولانا رشید احمد گنگوہی مر

